



# People like you and me

## Episode 1: Introduction

Multilingual summary · 39 languages · ta-na-si.eu

Compiled on 3 January 2026

### Languages

- English English
- German Deutsch
- French Français
- Italian Italiano
- Spanish Español
- Portuguese Português
- Dutch Nederlands
- Russian Русский
- Ukrainian Українська
- Polish Polski
- Greek Ελληνικά
- Swedish Svenska
- Danish Dansk
- Norwegian Norsk
- Turkish Türkçe
- Chinese 中文
- Hindi हिन्दी
- Arabic العربية
- Indonesian / Malay Bahasa Indonesia
- Japanese 日本語
- Vietnamese Tiếng Việt
- Korean 한국어
- Filipino / Tagalog Filipino
- Belarusian Беларуская
- Czech Čeština
- Slovak Slovenčina
- Hungarian Magyar
- Romanian Română
- Bulgarian Български
- Croatian Hrvatski
- Slovenian Slovenščina
- Finnish Suomi
- Bengali বাংলা
- Urdu اردو
- Persian فارسی
- Swahili Kiswahili
- Thai ไทย
- Icelandic Íslenska
- Irish Gaeilge

● very reliable

● solid, with caution

● trickier / smaller language

# English English

## “People like you and me” · Episode 1: Introduction

AI-assisted multilingual edition

### Introduction

Raven and Keylam open the channel with a welcome. They say their names and lay out, in the plainest terms, what they are here for: to talk about the basic things for people inside of this world. What they are really interested in doing is easy — and it is simple. They want a good living and a good future for their kids. All the opinions, and all the things people fight against, can only create a war, not a well-being. That is what they are looking forward to talking about: how we can look at the things that belong to us.

Welcome, then, to people like you and me.

Source: Ta-Na-Si audio podcast (released as a video with a nature recording) · edited with Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Based on a Ta-Na-Si audio podcast (released as a video with a nature recording) — AI-assisted summary. Original text (English).

### Einleitung

Raven und Keylam eröffnen den Kanal mit einer Begrüßung. Sie nennen ihre Namen und legen in den schlichtesten Worten dar, worum es ihnen geht: über die grundlegenden Dinge für die Menschen in dieser Welt zu sprechen. Was sie wirklich tun wollen, ist leicht gesagt — und es ist einfach. Sie wollen ein gutes Leben und eine gute Zukunft für ihre Kinder. Alle Meinungen und all das, wogegen die Menschen kämpfen, können nur einen Krieg schaffen, kein Wohlergehen. Genau darüber freuen sie sich zu sprechen: wie wir auf die Dinge schauen können, die uns gehören.

**Willkommen also bei Menschen wie du und ich.**

Quelle: Ta-Na-Si-Audiopodcast (als Video mit Naturaufnahme veröffentlicht) · bearbeitet mit Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Beruht auf einem Ta-Na-Si-Audiopodcast (als Video mit Naturaufnahme veröffentlicht) — KI-gestützte Zusammenfassung. Aus dem Englischen übersetzt von Claude (KI). Eingeschätzte Übersetzungsqualität: sehr zuverlässig.

# French Français

## “Des gens comme vous et moi” · Épisode 1: Introduction

Édition multilingue assistée par IA

### Introduction

Raven et Keylam ouvrent la chaîne par un mot de bienvenue. Ils disent leurs noms et exposent, dans les termes les plus simples, ce pour quoi ils sont là : parler des choses fondamentales pour les gens à l'intérieur de ce monde. Ce qu'ils ont vraiment envie de faire est facile à dire — et c'est simple. Ils veulent une bonne vie et un bon avenir pour leurs enfants. Toutes les opinions, et tout ce contre quoi les gens se battent, ne peuvent créer qu'une guerre, pas un bien-être. C'est de cela qu'ils se réjouissent de parler : comment nous pouvons regarder les choses qui nous appartiennent.

**Bienvenue, donc, à des gens comme vous et moi.**

Source : podcast audio Ta-Na-Si (publié sous forme de vidéo avec une prise de vue de la nature) · édité avec Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Fondé sur un podcast audio Ta-Na-Si (publié sous forme de vidéo avec une prise de vue de la nature) — résumé assisté par IA. Traduit de l'anglais par Claude (IA). Qualité de traduction estimée: très fiable.

### Introduzione

Raven e Keylam aprono il canale con un benvenuto. Dicono i loro nomi ed espongono, nei termini più semplici, perché sono qui: parlare delle cose fondamentali per le persone dentro questo mondo. Ciò che desiderano davvero fare è facile da dire — ed è semplice. Vogliono una vita buona e un buon futuro per i loro figli. Tutte le opinioni, e tutto ciò contro cui la gente combatte, possono creare soltanto una guerra, non un benessere. È proprio di questo che non vedono l'ora di parlare: di come possiamo guardare alle cose che ci appartengono.

**Benvenuti, dunque, a gente come te e me.**

Fonte: podcast audio Ta-Na-Si (pubblicato come video con una ripresa naturalistica) · curato con Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Basato su un podcast audio Ta-Na-Si (pubblicato come video con una ripresa naturalistica) — riassunto assistito dall'IA. Tradotto dall'inglese da Claude (IA). Qualità di traduzione stimata: molto affidabile.

### Introducción

Raven y Keylam abren el canal con una bienvenida. Dicen sus nombres y exponen, en los términos más sencillos, para qué están aquí: hablar de las cosas básicas para las personas dentro de este mundo. Lo que de verdad desean hacer es fácil de decir — y es sencillo. Quieren una buena vida y un buen futuro para sus hijos. Todas las opiniones, y todo aquello contra lo que la gente lucha, solo pueden crear una guerra, no un bienestar. Es justo de eso de lo que tienen ganas de hablar: de cómo podemos mirar las cosas que nos pertenecen.

**Bienvenidos, pues, a gente como tú y yo.**

Fuente: pódcast de audio Ta-Na-Si (publicado como vídeo con una toma de la naturaleza) · editado con Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Basado en un pódcast de audio Ta-Na-Si (publicado como vídeo con una toma de la naturaleza) — resumen asistido por IA. Traducido del inglés por Claude (IA). Calidad de traducción estimada: muy fiable.

# Portuguese Português

## “Gente como tu e eu” · Episódio 1: Introdução

Edição multilingue assistida por IA

### Introdução

Raven e Keylam abrem o canal com as boas-vindas. Dizem os seus nomes e expõem, nos termos mais simples, o motivo de estarem aqui: falar das coisas básicas para as pessoas dentro deste mundo. O que realmente desejam fazer é fácil de dizer — e é simples. Querem uma vida boa e um bom futuro para os seus filhos. Todas as opiniões, e tudo aquilo contra o que as pessoas lutam, só podem criar uma guerra, não um bem-estar. É precisamente disso que estão ansiosos por falar: de como podemos olhar para as coisas que nos pertencem.

**Bem-vindos, então, a gente como tu e eu.**

Fonte: podcast de áudio Ta-Na-Si (publicado como vídeo com uma captação da natureza) · editado com Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Baseado num podcast de áudio Ta-Na-Si (publicado como vídeo com uma captação da natureza) — resumo assistido por IA. Traduzido do inglês por Claude (IA). Qualidade de tradução estimada: muito fiável.

# Dutch Nederlands

## “Mensen zoals jij en ik” · Aflevering 1: Inleiding

KI-ondersteunde meertalige editie

### Inleiding

Raven en Keylam openen het kanaal met een welkom. Ze zeggen hun namen en zetten in de eenvoudigste bewoordingen uiteen waarvoor ze er zijn: praten over de basale dingen voor de mensen binnen deze wereld. Wat ze echt willen doen is makkelijk gezegd — en het is eenvoudig. Ze willen een goed leven en een goede toekomst voor hun kinderen. Alle meningen, en alles waar mensen tegen vechten, kunnen alleen een oorlog scheppen, geen welzijn. Juist daarover verheugen ze zich om te praten: hoe we kunnen kijken naar de dingen die van ons zijn.

Welkom dus bij mensen zoals jij en ik.

Bron: Ta-Na-Si-audiopodcast (gepubliceerd als video met een natuuroopname) · bewerkt met Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Gebaseerd op een Ta-Na-Si-audiopodcast (gepubliceerd als video met een natuuroopname) — AI-ondersteunde samenvatting. Vertaald uit het Engels door Claude (AI). Geschatte vertaalkwaliteit: zeer betrouwbaar.

# Russian Русский

## “Люди как ты и я” · Эпизод 1: Вступление

Многоязычное издание с помощью ИИ

### Вступление

Рэйвен и Кейлам открывают канал приветствием. Они называют свои имена и в самых простых словах излагают, ради чего они здесь: чтобы говорить об основных вещах для людей внутри этого мира. То, что им по-настоящему хочется делать, легко сказать — и это просто. Они хотят хорошей жизни и хорошего будущего для своих детей. Все мнения и всё то, против чего борются люди, способны породить лишь войну, а не благополучие. Именно об этом они с радостью предвкушают разговор: о том, как мы можем смотреть на вещи, которые нам принадлежат.

**Итак, добро пожаловать к людям как ты и я.**

Источник: аудиоподкаст Ta-Na-Si (опубликован как видео с записью природы) · отредактировано с Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- На основе аудиоподкаста Ta-Na-Si (опубликован как видео с записью природы) — резюме с помощью ИИ. Переведено с английского с помощью Claude (ИИ). Оценочное качество перевода: очень надёжно.

# Ukrainian Українська

## “Люди як ти і я” · Епізод 1: Вступ

Багатомовне видання за допомогою ШІ

### Вступ

Рейвен і Кейлам відкривають канал привітанням. Вони називають свої імена й найпростішими словами викладають, заради чого вони тут: щоб говорити про основні речі для людей усередині цього світу. Те, що їм справді хочеться робити, легко сказати — і це просто. Вони хочуть доброго життя й доброго майбутнього для своїх дітей. Усі думки й усе те, проти чого борються люди, здатні породити лише війну, а не добробут. Саме про це вони з радістю чекають розмови: про те, як ми можемо дивитися на речі, що нам належать.

Отже, ласкаво просимо до людей як ти і я.

Джерело: аудіоподкаст Ta-Na-Si (опубліковано як відео із записом природи) · відредаговано з Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- На основі аудіоподкасту Ta-Na-Si (опубліковано як відео із записом природи) — резюме за допомогою ШІ. Перекладено з англійської за допомогою Claude (ШІ). Орієнтовна якість перекладу: дуже надійно.

# Polish Polski

## “Ludzie tacy jak ty i ja” · Odcinek 1: Wprowadzenie

Wielojęzyczne wydanie wspomagane przez SI

### Wprowadzenie

Raven i Keylam otwierają kanał powitaniem. Podają swoje imiona i w najprostszych słowach wykładają, po co tu są: by mówić o podstawowych sprawach dla ludzi wewnątrz tego świata. To, co naprawdę chcą robić, łatwo powiedzieć — i jest proste. Chcą dobrego życia i dobrej przyszłości dla swoich dzieci. Wszystkie opinie i wszystko to, z czym ludzie walczą, mogą stworzyć jedynie wojnę, a nie dobrobyt. Właśnie o tym z radością chcą rozmawiać: o tym, jak możemy patrzeć na rzeczy, które do nas należą.

Witajcie więc u ludzi takich jak ty i ja.

Źródło: podcast audio Ta-Na-Si (opublikowany jako wideo z ujęciem przyrody) · zredagowano z Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Na podstawie podcastu audio Ta-Na-Si (opublikowanego jako wideo z ujęciem przyrody) — streszczenie wspomagane przez SI. Przetłumaczone z angielskiego przez Claude (SI). Szacowana jakość tłumaczenia: bardzo wiarygodne.

# Greek Ελληνικά

## “Άνθρωποι σαν εσένα κι εμένα” · Επεισόδιο 1: Εισαγωγή

Πολύγλωσση έκδοση με τη βοήθεια TN

### Εισαγωγή

Ο Ρέιβεν και ο Κέιλαμ ανοίγουν το κανάλι με έναν χαιρετισμό. Λένε τα ονόματά τους και εκθέτουν, με τα πιο απλά λόγια, για ποιο λόγο βρίσκονται εδώ: να μιλήσουν για τα βασικά πράγματα για τους ανθρώπους μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό που πραγματικά θέλουν να κάνουν λέγεται εύκολα — και είναι απλό. Θέλουν μια καλή ζωή και ένα καλό μέλλον για τα παιδιά τους. Όλες οι απόψεις, και όλα όσα οι άνθρωποι πολεμούν, μπορούν να δημιουργήσουν μόνο έναν πόλεμο, όχι μια ευημερία. Ακριβώς γι' αυτό ανυπομονούν να μιλήσουν: για το πώς μπορούμε να κοιτάμε τα πράγματα που μας ανήκουν.

**Καλώς ήρθατε, λοιπόν, σε ανθρώπους σαν εσένα κι εμένα.**

Πηγή: ηχητικό podcast Ta-Na-Si (δημοσιεύτηκε ως βίντεο με λήψη της φύσης) · επιμέλεια με Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Με βάση ένα ηχητικό podcast Ta-Na-Si (δημοσιεύτηκε ως βίντεο με λήψη της φύσης) — περίληψη με υποστήριξη TN. Μεταφράστηκε από τα αγγλικά από τον Claude (TN). Εκτιμώμενη ποιότητα μετάφρασης: πολύ αξιόπιστη.

# Swedish Svenska

## “Människor som du och jag” · Avsnitt 1: Inledning

AI-stödd flerspråkig utgåva

### Inledning

Raven och Keylam öppnar kanalen med ett välkomnande. De säger sina namn och lägger, med de enklaste ord, fram vad de är här för: att tala om de grundläggande tingen för människorna inuti den här världen. Vad de verkligen vill göra är lätt att säga — och det är enkelt. De vill ha ett gott liv och en god framtid för sina barn. Alla åsikter, och allt som människor strider mot, kan bara skapa ett krig, inte ett välbefinnande. Det är just det de ser fram emot att tala om: hur vi kan se på de ting som tillhör oss.

Välkomna, alltså, till människor som du och jag.

Källa: Ta-Na-Si-ljudpodd (publicerad som video med en naturupptagning) · redigerad med Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Baserat på en Ta-Na-Si-ljudpodd (publicerad som video med en naturupptagning) — AI-stödd sammanfattning. Översatt från engelska av Claude (AI). Uppskattad översättningskvalitet: mycket tillförlitlig.

### Indledning

Raven og Keylam åbner kanalen med en velkomst. De siger deres navne og redegør, i de enkleste vendinger, for hvad de er her for: at tale om de grundlæggende ting for menneskene inde i denne verden. Det, de virkelig har lyst til at gøre, er let at sige — og det er enkelt. De ønsker et godt liv og en god fremtid for deres børn. Alle holdninger, og alt det, mennesker kæmper imod, kan kun skabe en krig, ikke en trivsel. Det er netop det, de glæder sig til at tale om: hvordan vi kan se på de ting, der tilhører os.

Velkommen, da, til mennesker som dig og mig.

Kilde: Ta-Na-Si-lydpodcast (udgivet som video med en naturoptagelse) · redigeret med Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Baseret på en Ta-Na-Si-lydpodcast (udgivet som video med en naturoptagelse) — AI-støttet sammendrag. Oversat fra engelsk af Claude (AI). Anslået oversættelses kvalitet: meget pålidelig.

# Norwegian Norsk

## “Mennesker som deg og meg” · Episode 1: Innledning

KI-støttet flerspråklig utgave

### Innledning

Raven og Keylam åpner kanalen med en velkomst. De sier navnene sine og legger, med de enkleste ord, fram hva de er her for: å snakke om de grunnleggende tingene for menneskene inne i denne verden. Det de virkelig har lyst til å gjøre er lett å si — og det er enkelt. De vil ha et godt liv og en god framtid for barna sine. Alle meningene, og alt det menneskene kjemper mot, kan bare skape en krig, ikke et velvære. Det er nettopp det de gleder seg til å snakke om: hvordan vi kan se på de tingene som tilhører oss.

Velkommen, da, til mennesker som deg og meg.

Kilde: Ta-Na-Si-lydpodkast (publisert som video med et naturopptak) · redigert med Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Basert på en Ta-Na-Si-lydpodkast (publisert som video med et naturopptak) — AI-støttet sammendrag. Oversatt fra engelsk av Claude (AI). Anslått oversettelses kvalitet: svært pålitelig.

# Turkish Türkçe

## “Senin ve benim gibi insanlar” · Bölüm 1: Giriş

Yapay zekâ destekli çok dilli baskı

### Giriş

Raven ve Keylam kanalı bir karşılamayla açıyor. İsimlerini söylüyorlar ve en yalın sözcüklerle ne için burada olduklarını ortaya koyuyorlar: bu dünyanın içindeki insanlar için temel şeyleri konuşmak. Gerçekten yapmak istedikleri şeyi söylemek kolay — ve basit. Çocukları için iyi bir yaşam ve iyi bir gelecek istiyorlar. Bütün görüşler ve insanların karşı savaştığı her şey, ancak bir savaş yaratabilir, bir esenlik değil. İşte tam da bunu konuşmayı dört gözle bekliyorlar: bize ait olan şeylere nasıl bakabileceğimizi.

O hâlde, **senin ve benim gibi insanlara hoş geldiniz.**

Kaynak: Ta-Na-Si sesli podcast (doğa görüntüsü eşliğinde video olarak yayınlandı) · Claude AI ile düzenlendi · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Bir Ta-Na-Si sesli podcast'ine dayanır (doğa görüntüsü eşliğinde video olarak yayınlandı) — yapay zekâ destekli özet. İngilizceden Claude (YZ) tarafından çevrildi. Tahmini çeviri kalitesi: çok güvenilir.

# Chinese 中文

## “像你我一样的人” · 第 1 集: 引言

人工智能辅助的多语言版本

### 引言

雷文和凯拉姆以一句欢迎打开这个频道。他们说出自己的名字，并用最朴素的话语道出他们来这里的目的：谈论这个世界里的人们的基本之事。他们真正想做的事很容易说——而且很简单。他们想要美好的生活，以及孩子们美好的未来。所有的意见，以及人们所反对的一切，只能制造一场战争，而非一种安康。这正是他们满心期待去谈的：我们如何看待那些属于我们的事物。

那么，欢迎来到像你我一样的人。

来源：Ta-Na-Si 音频播客（以自然画面作为视频发布）· 由 Claude AI 编辑 · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- 基于一则 Ta-Na-Si 音频播客（以自然画面作为视频发布）——由人工智能辅助的摘要。由 Claude（人工智能）从英语翻译。预估翻译质量：非常可靠。

# Hindi हन्दी

“आप और हम जैसे लोग” · कड़ी 1: परचिय

AI-समर्थति बहुभाषी संस्करण

## परचिय

रेवन और केलम एक स्वागत के साथ चैनल की शुरुआत करते हैं। वे अपने नाम बताते हैं और सबसे सरल शब्दों में यह रखते हैं कवि कसिलिए यहाँ हैं: इस दुनिया के भीतर लोगों के लिए बुनयिादी चीजों के बारे में बात करना। वे सच में जो करना चाहते हैं, उसे कहना आसान है — और वह सरल है। वे अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन और एक अच्छा भवष्य चाहते हैं। सारी राय, और वह सब कुछ जिसके खिलाफ लोग लड़ते हैं, केवल एक युद्ध रच सकते हैं, कोई कल्याण नहीं। ठीक इसी के बारे में बात करने का वे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं: कहिम उन चीजों को कैसे देख सकते हैं जो हमारी अपनी हैं।

तो फरि, आप और हम जैसे लोगों में आपका स्वागत है।

स्रोत: Ta-Na-Si ऑडियो पॉडकास्ट (प्रकृत-दृश्य के साथ वीडियो के रूप में प्रकाशति) · Claude AI से संपादति · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- एक Ta-Na-Si ऑडियो पॉडकास्ट पर आधारति (प्रकृत-दृश्य के साथ वीडियो के रूप में प्रकाशति) — एआई-समर्थति सारांश। Claude (एआई) द्वारा अंग्रेज़ी से अनुवादति। अनुमानति अनुवाद गुणवत्ता: बहुत वशिवसनीय।

### مقدمة

يحاربه الناس، لا يمكنها أن تخلق إلا حربا، لا رفاها. وهذا بالضبط ما يتطلعان إلى الحديث عنه: كيف يمكننا أن ننظر إلى الأشياء التي تخصنا. داخل هذا العالم. ما يرغبان حقا في فعله من السهل قوله — وهو بسيط. يريدان حياة طيبة ومستقبلا طيبا لأنناهما. كل الآراء، وكل ما رايفن وكيلام القناة بترحيب. يقولان اسميهما ويعرضان، بأبسط العبارات، ما الذي جاء من أجله: أن يتحدثنا عن الأشياء الأساسية للناس يفتتح

أهلا بكم، إذا، إلى أناس مثلك ومثلي.

المصدر: بودكاست صوتي من Ta-Na-Si (نشر كفيديو بلقطة من الطبيعة) · حرر باستخدام Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu  
● بلقطة من الطبيعة) — ملخص بمساعدة الذكاء الاصطناعي. ترجم من الإنجليزية بواسطة Claude (ذكاء اصطناعي). جودة الترجمة المقدر: موثوقة جدا.  
مبني على بودكاست صوتي من Ta-Na-Si (نشر كفيديو

# Indonesian / Malay Bahasa Indonesia

“Orang-orang seperti kamu dan aku” · Episode 1: Pengantar

Edisi multibahasa berbantuan AI

## Pengantar

Raven dan Keylam membuka kanal dengan sapaan selamat datang. Mereka menyebutkan nama mereka dan memaparkan, dengan kata-kata yang paling sederhana, untuk apa mereka di sini: membicarakan hal-hal mendasar bagi orang-orang di dalam dunia ini. Apa yang sungguh ingin mereka lakukan mudah dikatakan — dan itu sederhana. Mereka menginginkan kehidupan yang baik dan masa depan yang baik bagi anak-anak mereka. Semua pendapat, dan segala hal yang dilawan orang, hanya dapat menciptakan sebuah perang, bukan sebuah kesejahteraan. Justru itulah yang mereka nantikan untuk dibicarakan: bagaimana kita dapat memandang hal-hal yang menjadi milik kita.

**Maka, selamat datang kepada orang-orang seperti kamu dan aku.**

Sumber: podcast audio Ta-Na-Si (dirilis sebagai video dengan rekaman alam) · disunting dengan Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Berdasarkan sebuah podcast audio Ta-Na-Si (dirilis sebagai video dengan rekaman alam) — ringkasan berbantuan AI. Diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Claude (AI). Perkiraan kualitas terjemahan: sangat andal.

# Japanese 日本語

“あなたや私のような人々”・第1回: はじめに

AI 支援による多言語版

## はじめに

レイヴンとケイラムは、挨拶とともにチャンネルを開きます。二人は名前を名乗り、もっとも素朴な言葉で、自分たちが何のためにここにいるのかを示します。それは、この世界の内側にいる人々にとっての基本的な事柄について語ることです。本当にやりたいことは言うのは簡単で——そして単純です。彼らは、よい暮らしと、子どもたちのよい未来を望んでいます。あらゆる意見、そして人々が抗うすべては、戦争を生むことしかできず、安らぎを生むことはありません。まさにそれこそ、語ることを楽しみにしていることです——私たちが、自分たちに属するものをどう見つめられるか、ということ。

それでは、あなたや私のような人々へ、ようこそ。

出典：Ta-Na-Si の音声ポッドキャスト（自然映像とともに動画として公開）・ Claude AI で編集・ Ta-Na-Si ・ ta-na-si.eu

- ある Ta-Na-Si の音声ポッドキャストに基づく（自然映像とともに動画として公開）——AI 支援による要約。Claude (AI) が英語から翻訳。推定翻訳品質：非常に信頼できる。

# Vietnamese Tiếng Việt

## “Những người như bạn và tôi” · Tập 1: Lời mở đầu

Ấn bản đa ngôn ngữ có hỗ trợ của AI

### Li m du

Raven và Keylam mở kênh bằng một lời chào mừng. Họ nói tên mình và trình bày, bằng những lời mộc mạc nhất, điều họ đến đây để làm: bàn về những điều căn bản cho con người bên trong thế giới này. Điều họ thật sự muốn làm thì dễ nói ra — và nó đơn giản. Họ muốn một cuộc sống tốt và một tương lai tốt cho con cái mình. Mọi ý kiến, và tất cả những gì người ta chống lại, chỉ có thể tạo ra một cuộc chiến, chứ không phải sự an lành. Đó chính là điều họ mong chờ được bàn tới: cách chúng ta có thể nhìn vào những thứ thuộc về mình.

Vậy thì, chào mừng đến với những người như bạn và tôi.

Nguồn: podcast âm thanh Ta-Na-Si (phát hành dưới dạng video với hình ảnh thiên nhiên) · biên tập bằng Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Dựa trên một podcast âm thanh Ta-Na-Si (phát hành dưới dạng video với hình ảnh thiên nhiên) — bản tóm tắt có hỗ trợ của AI. Dịch từ tiếng Anh bởi Claude (AI). Chất lượng dịch ước tính: rất đáng tin cậy.

# Korean 한국어

“당신과 나 같은 사람들” · 제1화: 들어가며

AI 보조 다국어판

## 들어가며

레이븐과 케일럼은 인사로 채널을 엽니다. 그들은 자기 이름을 말하고, 가장 단순한 말로 자신들이 무엇을 위해 이곳에 있는지를 펼쳐 놓습니다. 그것은 이 세계 안의 사람들을 위한 근본적인 것들에 대해 이야기하는 것입니다. 그들이 정말로 하고 싶은 일은 말하기 쉽고 — 또 단순합니다. 그들은 좋은 삶과 자기 아이들을 위한 좋은 미래를 바랍니다. 모든 의견, 그리고 사람들이 맞서 싸우는 그 모든 것은 오직 전쟁만을 만들 수 있을 뿐, 안녕을 만들지는 못합니다. 바로 그것이 그들이 이야기하기를 고대하는 것입니다 — 우리에게 속한 것들을 우리가 어떻게 바라볼 수 있는가 하는 것 말입니다.

그러니, 당신과 나 같은 사람들에게 오신 것을 환영합니다.

출처: Ta-Na-Si 오디오 팟캐스트 (자연 영상과 함께 동영상으로 공개) · Claude AI로 편집 · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- 한 Ta-Na-Si 오디오 팟캐스트에 기반함 (자연 영상과 함께 동영상으로 공개) — AI 보조 요약. Claude(AI)가 영어에서 번역. 추정 번역 품질: 매우 신뢰할 수 있음.

# Filipino / Tagalog Filipino

## “Mga taong tulad mo at tulad ko” · Episodyo 1: Panimula

Edisyong maraming-wika na may tulong ng AI

### Panimula

Binubuksan nina Raven at Keylam ang channel sa isang pagbati. Sinasabi nila ang kanilang mga pangalan at inilalatag, sa pinakapayak na pananalita, kung bakit sila naririto: upang pag-usapan ang mga pangunahing bagay para sa mga tao sa loob ng mundong ito. Ang talagang nais nilang gawin ay madaling sabihin — at ito ay simple. Gusto nila ng isang mabuting pamumuhay at isang mabuting kinabukasan para sa kanilang mga anak. Lahat ng opinyon, at lahat ng nilalabanan ng mga tao, ay makalilikha lamang ng isang digmaan, hindi ng isang kagalingan. Iyon mismo ang inaabangan nilang pag-usapan: kung paano natin matitingnan ang mga bagay na atin.

**Kaya, maligayang pagdating sa mga taong tulad mo at tulad ko.**

Pinagmulan: audio podcast ng Ta-Na-Si (inilabas bilang video na may rekording ng kalikasan) · ginawa gamit ang Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Batay sa isang audio podcast ng Ta-Na-Si (inilabas bilang video na may rekording ng kalikasan) — buod na may tulong ng AI. Isinalin mula sa Ingles ni Claude (AI). Tinatayang kalidad ng pagsasalin: napakaaasahan.

# Belarusian Беларуская

“Людзі як ты і я” · Эпізод 1: Уступ

Шматмоўнае выданне з дапамогай ШІ

## Уступ

Рэйвен і Кейлам адкрываюць канал прывітаннем. Яны называюць свае імёны і найпрасцейшымі словамі выкладаюць, дзеля чаго яны тут: каб гаварыць пра асноўныя рэчы для людзей унутры гэтага свету. Тое, што ім сапраўды хочацца рабіць, лёгка сказаць — і гэта проста. Яны хочучь добрага жыцця і добрай будучыні для сваіх дзяцей. Усе меркаванні і ўсё тое, супраць чаго змагаюцца людзі, здольныя нарадзіць толькі вайну, а не дабрабыт. Менавіта пра гэта яны з радасцю чакаюць размовы: пра тое, як мы можам глядзець на рэчы, што нам належаць.

**Дык вось, сардэчна запрашаем да людзей як ты і я.**

Крыніца: аўдыяпадкаст Ta-Na-Si (апублікаваны як відэа з запісам прыроды) · адрэдагавана з Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- На аснове аўдыяпадкаста Ta-Na-Si (апублікаваны як відэа з запісам прыроды) — рэзюмэ з дапамогай ШІ. Перакладзена з англійскай з дапамогай Claude (ШІ). Ацэначная якасць перакладу: надзейна, з асцярожнасцю.

# Czech Čeština

## “Lidé jako ty a já” · Díl 1: Úvod

Vícejazyčné vydání s pomocí UI

### Úvod

Raven a Keylam otevírají kanál přivítáním. Řeknou svá jména a v nejprostších slovech předloží, kvůli čemu tu jsou: mluvit o základních věcech pro lidi uvnitř tohoto světa. To, co opravdu chtějí dělat, se snadno řekne — a je to prosté. Chtějí dobrý život a dobrou budoucnost pro své děti. Všechny názory a všechno to, proti čemu lidé bojují, mohou stvořit jen válku, ne blaho. Právě o tom se těší mluvit: o tom, jak se můžeme dívat na věci, které k nám patří.

Vítejte tedy u lidí, jako jste vy a já.

Zdroj: audio podcast Ta-Na-Si (zveřejněno jako video se záběrem přírody) · upraveno s Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Na základě audio podcastu Ta-Na-Si (zveřejněno jako video se záběrem přírody) — shrnutí s podporou UI. Přeloženo z angličtiny programem Claude (UI). Odhadovaná kvalita překladu: solidní, s opatrností.

# Slovak Slovenčina

## “Ľudia ako ty a ja” · Diel 1: Úvod

Viacjazyčné vydanie s pomocou UI

### Úvod

Raven a Keylam otvárajú kanál privítaním. Povedia svoje mená a v najprostejších slovách predložia, kvôli čomu sú tu: hovoriť o základných veciach pre ľudí vnútri tohto sveta. To, čo naozaj chcú robiť, sa ľahko povie — a je to prosté. Chcú dobrý život a dobrú budúcnosť pre svoje deti. Všetky názory a všetko to, proti čomu ľudia bojujú, môžu stvoriť len vojnu, nie blaho. Práve o tom sa tešia hovoriť: o tom, ako sa môžeme pozeráť na veci, ktoré k nám patria.

Vitajte teda u ľudí, ako ste vy a ja.

Zdroj: audio podcast Ta-Na-Si (zverejnené ako video so záberom prírody) · upravené s Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Na základe audio podcastu Ta-Na-Si (zverejnené ako video so záberom prírody) — zhrnutie s podporou UI. Preložené z angličtiny programom Claude (UI). Odhadovaná kvalita prekladu: solídne, s opatrnosťou.

# Hungarian Magyar

“Olyan emberek, mint te és én” · 1. rész: Bevezetés

MI-támogatott többnyelvű kiadás

## Bevezetés

Raven és Keylam egy köszöntéssel nyitják meg a csatornát. Kimondják a nevüket, és a lehető legegyszerűbb szavakkal kifejtik, miért vannak itt: hogy az e világon belül élő emberek alapvető dolgairól beszéljenek. Amit valójában tenni szeretnének, könnyű kimondani — és egyszerű. Jó életet és jó jövőt szeretnének a gyermekeiknek. Minden vélemény, és mindaz, ami ellen az emberek küzdenek, csak háborút teremthet, nem jólétet. Pontosan erről beszélnek majd örömmel: arról, hogyan tekinthetünk a hozzánk tartozó dolgokra.

Üdvözlünk hát olyan emberek között, mint te és én.

Forrás: Ta-Na-Si hangpodcast (természetfelvétellel kísért videóként közzétéve) · szerkesztve Claude AI-val · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Egy Ta-Na-Si hangpodcast alapján (természetfelvétellel kísért videóként közzétéve) — MI-támogatású összefoglaló. Angolról fordította a Claude (MI). Becsült fordítási minőség: szilárd, óvatossággal.

# Romanian Română

## “Oameni ca tine și ca mine” · Episodul 1: Introducere

Editie multilingvă asistată de IA

### Introducere

Raven și Keylam deschid canalul cu o urare de bun venit. Își spun numele și expun, în cei mai simpli termeni, pentru ce se află aici: să vorbească despre lucrurile fundamentale pentru oamenii dinăuntrul acestei lumi. Ceea ce își doresc cu adevărat să facă e ușor de spus — și e simplu. Vor o viață bună și un viitor bun pentru copiii lor. Toate opiniile, și tot ceea ce oamenii combat, nu pot crea decât un război, nu o bunăstare. Tocmai despre asta abia așteaptă să vorbească: despre cum putem privi lucrurile care ne aparțin.

**Bun venit, așadar, la oameni ca tine și ca mine.**

Sursă: podcast audio Ta-Na-Si (publicat ca videoclip cu o filmare din natură) · editat cu Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Pe baza unui podcast audio Ta-Na-Si (publicat ca videoclip cu o filmare din natură) — rezumat asistat de IA. Tradus din engleză de Claude (IA). Calitatea estimată a traducerii: solidă, cu precauție.

# Bulgarian Български

## “Хора като теб и мен” · Епизод 1: Начало

Многоезично издание с помощта на ИИ

### Начало

Рейвън и Кейлъм откриват канала с поздрав. Казват имената си и с най-прости думи излагат за какво са тук: да говорят за основните неща за хората вътре в този свят. Това, което истински искат да правят, е лесно да се каже — и е просто. Искат добър живот и добро бъдеще за децата си. Всички мнения и всичко онова, срещу което хората се борят, могат да породят само война, а не благоденствие. Точно за това с радост очакват да говорят: за това как можем да гледаме на нещата, които ни принадлежат.

**И така, добре дошли при хора като теб и мен.**

Източник: аудио подкаст Ta-Na-Si (публикуван като видео със заснемане на природата) · редактирано с Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Въз основа на аудио подкаст Ta-Na-Si (публикуван като видео със заснемане на природата) — резюме с помощта на ИИ. Преведено от английски от Claude (ИИ). Оценено качество на превода: надеждно, с предпазливост.

# Croatian Hrvatski

## “Ljudi poput tebe i mene” · Epizoda 1: Uvod

Višejezično izdanje uz pomoć UI

### Uvod

Raven i Keylam otvaraju kanal pozdravom dobrodošlice. Kažu svoja imena i najjednostavnijim riječima iznose zašto su ovdje: da govore o temeljnim stvarima za ljude unutar ovoga svijeta. Ono što uistinu žele činiti lako je reći — i jednostavno je. Žele dobar život i dobru budućnost za svoju djecu. Sva mišljenja, i sve ono protiv čega se ljudi bore, mogu stvoriti samo rat, a ne blagostanje. Upravo o tome se vesele govoriti: o tome kako možemo gledati na stvari koje nam pripadaju.

**Dobro došli, dakle, k ljudima poput tebe i mene.**

Izvor: audio podcast Ta-Na-Si (objavljeno kao video sa snimkom prirode) · uređeno s Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Na temelju audio podcasta Ta-Na-Si (objavljeno kao video sa snimkom prirode) — sažetak uz pomoć UI-ja. Prevedeno s engleskoga pomoću Claudea (UI). Procijenjena kvaliteta prijevoda: solidno, uz oprez.

# Slovenian Slovenščina

## “Ljudje, kot smo ti in jaz” · Epizoda 1: Uvod

Večjezična izdaja s pomočjo UI

### Uvod

Raven in Keylam odpreta kanal s pozdravom. Povesta svoji imeni in z najpreprostejšimi besedami predstavita, zakaj sta tukaj: da bi govorila o temeljnih stvareh za ljudi znotraj tega sveta. Tisto, kar resnično želita početi, je lahko povedati — in je preprosto. Želita dobro življenje in dobro prihodnost za svoje otroke. Vsa mnenja in vse tisto, proti čemur se ljudje borijo, lahko ustvarijo le vojno, ne blaginje. Prav o tem se veselita govoriti: o tem, kako lahko gledamo na stvari, ki nam pripadajo.

Dobrodošli torej k ljudem, kot smo ti in jaz.

Vir: zvočni podkast Ta-Na-Si (objavljeno kot videoposnetek s posnetkom narave) · urejeno s Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Na podlagi zvočnega podkasta Ta-Na-Si (objavljeno kot videoposnetek s posnetkom narave) — povzetek s pomočjo UI. Prevedeno iz angleščine s Claudeom (UI). Ocenjena kakovost prevoda: solidno, s previdnostjo.

# Finnish Suomi

## “Ihmisiä kuten sinä ja minä” · Jakso 1: Johdanto

Tekoälyavusteinen monikielinen laitos

### Johdanto

Raven ja Keylam avaavat kanavan tervehdyksellä. He sanovat nimensä ja esittävät yksinkertaisimmin sanoin, mitä varten he ovat täällä: puhuakseen perusasioista ihmisille tämän maailman sisällä. Se, mitä he todella haluavat tehdä, on helppo sanoa — ja se on yksinkertaista. He haluavat hyvän elämän ja hyvän tulevaisuuden lapsilleen. Kaikki mielipiteet, ja kaikki se, mitä vastaan ihmiset taistelevat, voivat luoda vain sodan, eivät hyvinvointia. Juuri siitä he odottavat innolla puhuvansa: siitä, miten voimme katsoa asioita, jotka kuuluvat meille.

**Tervetuloa siis ihmisten pariin, jotka ovat kuten sinä ja minä.**

Lähde: Ta-Na-Si-äänipodcast (julkaistu videona luontokuvan kanssa) · muokattu Claude AI:lla · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Perustuu Ta-Na-Si-äänipodcastiin (julkaistu videona luontokuvan kanssa) — tekoälyavusteinen tiivistelmä. Kääntänyt englannista Claude (tekoäly). Arvioitu käännöslaatu: vakaa, varauksin.

# Bengali বাংলা

“আপনার ও আমার মতো মানুষ” · পর্ব ১: ভূমিকা

AI-সহায়ক বহুভাষিক সংস্করণ

## ভূমিকা

রভেনে আর কইলাম একটা স্বাগত জানিয়ে চ্যানলেট শিরু করনে। তাঁরা নজিদে নাম বলনে আর সবচেয়ে সরল ভাষায় তুলে ধরনে তাঁরা কীসরে জন্য এখান: এই জগতরে ভতেররে মানুষদরে জন্য মৌলকি বিষয়গুলো নযিে কথা বলা। তাঁরা সত্যহি যা করতে চান, তা বলা সহজ — আর তা সরল। তাঁরা তাঁদের সন্তানদরে জন্য একটা ভালো জীবন আর একটা ভালো ভবিষ্যৎ চান। সমস্ত মতামত, আর মানুষ যার বিরুদ্ধে লড়ে সেই সবকিছু, কবেল একটা যুদ্ধই তরৈকিরতে পারে, কোনো কল্যাণ নয়। ঠিকি এই নযিইে তাঁরা কথা বলার জন্য অপেক্ষায় আছনে: য়ে জনিসিগুলো আমাদরে নজিরে, সগেলোর দকিে আমরা কীভাবে তাকাতে পারি।

তাহলে, আপনার ও আমার মতো মানুষদের মধ্যে স্বাগতম।

উৎস: Ta-Na-Si অডিও পডকাস্ট (প্রকৃতরি দৃশ্যসহ ভিডিও হিসেবে প্রকাশতি) · Claude AI দযিে সম্পাদতি · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- একটা Ta-Na-Si অডিও পডকাস্টরে উপর ভিত্তিকিরে (প্রকৃতরি দৃশ্যসহ ভিডিও হিসেবে প্রকাশতি) — এআই-সহায়তি সারসংক্ষেপে। Claude (এআই) দ্বারা ইংরজি থেকে অনূদতি। আনুমানকি অনুবাদ গুণমান: দৃঢ়, সতরকতাসহ।

### تعارف

ہیں، کوئی فلاح نہیں۔ بالکل اسی کے بارے میں وہ بات کرنے کے منتظر ہیں: کہ ہم ان چیزوں کو کیسے دیکھ سکتے ہیں جو ہماری اپنی ہیں۔ اچھی زندگی اور ایک اچھا مستقبل چاہتے ہیں۔ تمام آراء، اور وہ سب کچھ جس کے خلاف لوگ لڑتے ہیں، صرف ایک جنگ پیدا کر سکتے لیے بنیادی چیزوں کے بارے میں بات کرنا۔ جو وہ واقعی کرنا چاہتے ہیں، اسے کہنا آسان ہے — اور وہ سادہ ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ اپنے نام بتاتے ہیں اور سب سے سادہ الفاظ میں یہ رکھ دیتے ہیں کہ وہ کس لیے یہاں ہیں: اس دنیا کے اندر لوگوں کے ریوین اور کیلام ایک خوش آمدید کے ساتھ چینل

تو پھر، آپ اور میرے جیسے لوگوں میں خوش آمدید۔

ماخذ: Ta-Na-Si آڈیو پوڈکاسٹ (قدرتی منظر کے ساتھ ویڈیو کے طور پر شائع) • Claude AI سے ترتیب دیا گیا • Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

● پر شائع) — مصنوعی ذہانت کی مدد سے خلاصہ۔ انگریزی سے Claude (مصنوعی ذہانت) نے ترجمہ کیا۔ تخمینی ترجمہ معیار: مضبوط، احتیاط کے ساتھ۔ ایک Ta-Na-Si آڈیو پوڈکاسٹ پر مبنی (قدرتی منظر کے ساتھ ویڈیو کے طور

### مقدمه

بسازند، نه بهروزی‌ای. درست همین است که مشتاق سخن گفتن درباره آن‌اند: اینکه چگونه می‌توانیم به چیزهایی که از آن ماست بنگریم. آنان زندگی‌ای خوب و آینده‌ای خوب برای فرزندانشان می‌خواهند. همه نظرها، و همه آنچه مردم با آن می‌جنگند، تنها می‌توانند جنگی سخن گفتن درباره چیزهای بنیادی برای مردم درون این جهان. آنچه به‌راستی می‌خواهند انجام دهند گفتنش آسان است — و ساده است. ریون و کیلام کانال را با خوشامدی می‌گشایند. نام‌هایشان را می‌گویند و با ساده‌ترین واژه‌ها بیان می‌کنند که برای چه اینجا هستند: برای

پس، به مردمانی مانند تو و من خوش آمدید.

منبع: پادکست صوتی Ta-Na-Si (به‌صورت ویدیو با تصویری از طبیعت منتشر شد) · ویرایش با Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu  
● طبیعت منتشر شد) — خلاصه با کمک هوش مصنوعی. از انگلیسی توسط Claude (هوش مصنوعی) ترجمه شد. کیفیت تخمینی ترجمه: استوار، با احتیاط.  
بر پایه‌ی یک پادکست صوتی Ta-Na-Si (به‌صورت ویدیو با تصویری از

# Swahili Kiswahili

## “Watu kama wewe na mimi” · Kipindi cha 1: Utangulizi

Toleo la lugha nyingi lililosaidiwa na AI

### Utangulizi

Raven na Keylam wanafungua kituo kwa salamu ya karibu. Wanasema majina yao na wanaweka wazi, kwa maneno rahisi kabisa, kwa nini wako hapa: kuzungumza kuhusu mambo ya msingi kwa watu walio ndani ya ulimwengu huu. Kile wanachotaka kweli kufanya ni rahisi kukisema — na ni sahili. Wanataka maisha mema na mustakabali mwema kwa watoto wao. Maoni yote, na yale yote ambayo watu wanapigana dhidi yake, yanaweza tu kuumba vita, si ustawi. Ni hicho hasa wanachotazamia kukizungumza: jinsi tunavyoweza kuyaangalia mambo yanayotuhusu.

**Basi, karibuni kwa watu kama wewe na mimi.**

Chanzo: podikasti ya sauti ya Ta-Na-Si (ilitolewa kama video yenye rekodi ya maumbile) · imehaririwa kwa Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Inategemea podikasti ya sauti ya Ta-Na-Si (ilitolewa kama video yenye rekodi ya maumbile) — muhtasari uliosaidiwa na AI. Imetafsiriwa kutoka Kiingereza na Claude (AI). Ubora wa tafsiri uliokadiriwa: thabiti, kwa tahadhari.

# Thai ไทย

## “ผู้คนอย่างคุณและฉัน” ตอนที่ 1: บทนำ

ฉบับหลายภาษาที่ช่วยจัดทำด้วย AI

### บทนำ

Raven และ Keylam เปิดช่องด้วยการกล่าวต้อนรับพวกเขาบอกชื่อของคุณและวางไว้ด้วยถ้อยคำที่เรียบง่ายที่สุดว่าพวกเขา  
มาที่นี่เพื่ออะไรนั่นคือเพื่อพูดถึงเรื่องพื้นฐานสำหรับผู้คนภายในโลกใบนี้สิ่งที่พวกเขาอยากทำจริงๆนั้นพูดได้ง่ายและมันเรียบ  
ง่ายพวกเขาต้องการชีวิตที่ดีและอนาคตที่ดีสำหรับลูกๆของพวกเขาความคิดเห็นทั้งหมดและทุกสิ่งที่ผู้คนต่อสู้ดิ้นรนสร้างไ  
ด้เพียงสงครามไม่ใช่ความผาสุกนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเขาตั้งตารอที่จะพูดถึงนั่นคือเราจะมองสิ่งที่เป็นของเราได้อย่างไร

เช่นนั้นแล้วขอต้อนรับสู่ผู้คนอย่างคุณและฉัน

แหล่งที่มา: พอดแคสต์เสียงของ Ta-Na-Si (เผยแพร่เป็นวิดีโอพร้อมเสียงบันทึกจากรัฐชาติ) เรียบเรียงด้วย Claude AI Ta-Na-Si  
ta-na-si.eu

- อ้างอิงจากพอดแคสต์เสียงของ Ta-Na-Si (เผยแพร่เป็นวิดีโอพร้อมเสียงบันทึกจากรัฐชาติ) — บทสรุปที่ช่วยจัดทำด้วย AI  
แปลจากภาษาอังกฤษโดย Claude (AI) คุณภาพการแปลโดยประมาณ: มันคง ฟังระมัดระวัง

# Icelandic Íslenska

## “Fólk eins og þú og ég” · Þáttur 1: Inngangur

Margmála útgáfa með aðstoð gervigreindar

### Inngangur

Raven og Keylam opna rásina með kveðju. Þau segja nöfn sín og leggja fram, með einföldustu orðum, fyrir hvað þau eru hér: að tala um grundvallaratriðin fyrir fólk í innan þessa heims. Það sem þau langar í raun að gera er auðvelt að segja — og það er einfalt. Þau vilja gott líf og góða framtíð fyrir börnin sín. Allar skoðanir, og allt það sem fólk berst gegn, geta aðeins skapað stríð, ekki velferð. Það er einmitt það sem þau hlakka til að tala um: hvernig við getum litið á hlutina sem tilheyra okkur.

Verið þá velkomin til fólks eins og þú og ég.

Heimild: Ta-Na-Si hljóðhlaðvarp (birt sem myndband með náttúruupptöku) · ritstýrt með Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Byggt á Ta-Na-Si hljóðhlaðvarpi (birt sem myndband með náttúruupptöku) — samantekt með aðstoð gervigreindar. Þýtt úr ensku af Claude (gervigreind). Áætluð þýðingargæði: meira krefjandi.

# Irish Gaeilge

## “Daoine cosúil leatsa agus liomsa” · Eipeasóid 1: Réamhrá

Eagrán ilteangach le cúnamh IS

### Réamhrá

Osclaíonn Raven agus Keylam an cainéal le fáilte. Deir siad a n-ainmneacha agus leagann siad amach, sna téarmaí is simplí, cad chuige a bhfuil siad anseo: chun labhairt faoi na rudaí bunúsacha do na daoine laistigh den domhan seo. An rud a theastaíonn uathu a dhéanamh i ndáiríre, is furasta é a rá — agus tá sé simplí. Tá saol maith agus todhchaí mhaith uathu dá leanaí. Gach tuairim, agus gach a dtroideann daoine ina choinne, ní féidir leo ach cogadh a chruthú, ní leas. Sin go díreach an rud a bhfuil siad ag tnúth le labhairt faoi: conas is féidir linn féachaint ar na rudaí a bhaineann linn.

**Fáilte, mar sin, roimh dhaoine cosúil leatsa agus liomsa.**

Foinse: podchraoladh fuaime Ta-Na-Si (foilsithe mar fhíseán le radharc den dúlra) · curtha in eagar le Claude AI · Ta-Na-Si · ta-na-si.eu

- Bunaithe ar phodchraoladh fuaime Ta-Na-Si (foilsithe mar fhíseán le radharc den dúlra) — achoimre le cúnamh IS. Aistrithe ón mBéarla ag Claude (IS). Cáilíocht aistriúcháin mheasta: níos dúshlánaí.